

# Deu

## Chapter 16

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

שְׁמוֹרָה	אֶת-	חֹדֶשׁ	הָאֵיבִים	וְעֵשִׂיתָ	פֶּסַח	לַיהוָה	אֱלֹהֶיךָ	כִּי	בַחֹדֶשׁ
محفوظ-رکھ	کو-	مہینہ	-ایب-کا	اور-کرے-گا	فسح	یہوواہ-کے-لیے	تیرے-خدا-کے-لیے	کیونکہ	مہینے-میں
<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2320</a>	<a href="#">H0024</a>	<a href="#">H6453</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H2320</a>	<a href="#">H2320</a>
הָאֵיבִים	הוֹצִיאֶךָ	יְהוָה	אֱלֹהֶיךָ	מִמִּצְרַיִם	לַיְלָה:				
-ایب-کے	نکالا-تجھے	یہوواہ-نے	تیرے-خدا-نے	مصر-سے	رات-کو				
<a href="#">H0024</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H3915</a>				

لایا۔ نکال سے مصر وقت کے رات تجھے وہ میں مہینے اس کیونکہ منانا، عید کی فسح میں تعظیم کی خدا اپنے رب میں مہینے کے ایب

וְזָבַחְתָּ	פֶּסַח	לַיהוָה	אֱלֹהֶיךָ	צֹאן	וּבְקָר	בְּמִקְוֹם	אֲשֶׁר-	יִבְחַר
اور-ذبح-کرے-گا	فسح	یہوواہ-کے-لیے	تیرے-خدا-کے-لیے	بھیڑ-بکریوں	اور-مویشیوں	-مقام-میں	جو-	چنے-گا
<a href="#">H2076</a>	<a href="#">H6453</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H6629</a>	<a href="#">H1241</a>	<a href="#">H4725</a>	<a href="#">H0977</a>	<a href="#">H0977</a>
יְהוָה	לְשִׁכְן	שְׁמוֹ	שָׁם:					
یہوواہ	بسانے-کو	اپنا-نام	وہاں					
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7931</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H8033</a>					

کرنا۔ پیش گائے بیل یا بھیڑ بکریاں لئے کے قربانی اُسے گا۔ چنے لئے کے سکونت کی نام اپنے رب جو جا جو جمع جگہ اُس

לֶאֱ-	תֹאכְלֶה	עֲלִיוֹ	חֲמֹץ	שִׁבְעַת	יָמִים	תֹּאכְלֶה	עֲלִיוֹ	מִצּוֹת	לֶחֶם
-	کھانا	اس-کے-ساتھ	خمیری	سات	دن	کھانے-گا	اس-کے-ساتھ	بے-خمیری-روٹیاں	روٹی
<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H4682</a>	<a href="#">H3899</a>	<a href="#">H3899</a>	<a href="#">H3899</a>
עֲנִי	כִּי	בַחֲפֹזֹן	יִצְאֶתָּ	מִמִּצְרַיִם	מִמִּצְרַיִם	לְמַעַן	תִּזְכָּר	אֶת-	יוֹם
مصیبت-کی	کیونکہ	جلدبازی-سے	نکلا-تھا	زمین-سے	مصر-کی	تاکہ	یاد-رکھے	کو-	دن
<a href="#">H6040</a>	<a href="#">H2649</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H4616</a>	<a href="#">H2142</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3318</a>
מִמִּצְרַיִם	כָּל	יָמֵי	חַיֶּיךָ:						
زمین-سے	سب	دن	تیری-زندگی-کے						
<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3117</a>							

یہ کی مصیبت نکلا۔ سے مصر جلدی جلدی جب کیا نے تو طرح جس طرح اُسی بالکل کھا، روٹی یہی تک دن سات کھانا۔ روٹی بے خمیری ساتھ کے گوشت ہوا۔ روانہ سے مصر تو جب رہے یاد جی جیتے تیرے دن وہ تاکہ کھا لئے اس روٹی

וְלֹא-	יִרְאָה	לָךְ	שְׂאֵר	בְּכָל-	נִבְלָה	שִׁבְעַת	יָמִים	וְלֹא-	יָלִין	מִן-
اور-نہ-	دکھائی-دے	تجھے	خمیر	میں-ساری-	تیری-حد-میں	سات	دن	اور-نہ-	رہنا	سے-
<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H7603</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1366</a>	<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3117</a>
הַבָּשָׂר	אֲשֶׁר	תִּזְבַּח	בְּעֶרְב	בַּיּוֹם	הָרִאשׁוֹן	לְבֹקֶר:				
-گوشت-میں	جو	ذبح-کرے-گا	شام-کو	دن-میں	-پہلے	صبح-تک				
<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H2076</a>	<a href="#">H6153</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7223</a>	<a href="#">H1242</a>					

وقت اُسی گوشت کا اُس کرے پیش کو شام کی دن پہلے کے عید تو قربانی جو جائے۔ پایا نہ خمیر میں ملک پورے تیرے دوران کے ہفتے کے عید کہ بے لازم جائے۔ رہ نہ باقی کچھ تک صبح اگلی لے۔ کھا

5	לֹא	תֹכַל	לִזְבַח	אֶת	הַפֶּסַח	בְּאַחַד	שְׁעָרָיִךָ	אֲשֶׁר	יְהוָה	אֱלֹהֶיךָ
	نہیں	تو-کر-سکے-گا	ذبح-کرنا	کو-	-فسح	کسی-ایک-میں	تیرے-پہانکوں-سے	جو-	یہوواہ	تیرا-خدا
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3201</a>	<a href="#">H2076</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6453</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H8179</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>

נָתַן לָדָד:   
 دے-ریا-بے   
 تجھے   
 [H5414](#)

چڑھانا نہ گا دے تجھے خدا تیرا رب جو میں شہر بھی کسی قربانی کی فسح

6	כִּי	אִם	אֶל	הַמָּקוֹם	אֲשֶׁר	יִבְחַר	יְהוָה	אֱלֹהֶיךָ	לְשַׁכֵּן	שְׁמוֹ	שָׁם
	بلکہ	صرف-	کی-طرف-	-مقام	جو-	چنے-گا	یہوواہ	تیرا-خدا	بسانے-کو	اپنا-نام	وہاں
			<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4725</a>		<a href="#">H0977</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H7931</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H8033</a>

תִּזְבַּח אֶת-הַפֶּסַח בְּעֶרְבַּי שָׂמ-קוֹ אֶת-וַעֲרֹב הַשֶּׁמֶשׁ מוֹעֵד הַשְּׁמֶשׁ מוֹעֵד זָאתָךְ מִמִּצְרַיִם:   
 ذبح-کرے-گا کو-فسح شام-کو آتے-وقت کبوا سورج-کے وقت نکلنے-تیرے مصر-سے   
 [H2076](#) [H0853](#) [H6453](#) [H6153](#) [H0935](#) [H8121](#) [H4150](#) [H3318](#) [H4714](#)

کر۔ذبح وقت ڈوبتے سورج کو جانور کے قربانی طرح کی وقت نکلتے سے مصر گا۔ چنے لئے کے سکونت کی نام اپنے وہ جو جگہ اُس صرف بلکہ

7	וּבְשִׁלָּתָ	וְאֵכֶלָתָ	בַּמָּקוֹם	אֲשֶׁר	יִבְחַר	יְהוָה	אֱלֹהֶיךָ	בּוֹ	וּפְנִיתָ	בְּבֹקֶר
	اور-پکائے-گا	اور-کھائے-گا	-مقام-میں	جو	چنے-گا	یہوواہ	تیرا-خدا	اس-میں	اور-مڑے-گا	صبح-کو
	<a href="#">H1310</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H4725</a>		<a href="#">H0977</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>		<a href="#">H6437</a>	<a href="#">H1242</a>

וְהִלַּכְתָּ אֹר-جائے-گا   
 اپنے-خیموں-کو   
 [H0168](#) [H1980](#)

جا۔جلا واپس گھر اپنے صبح اگلی گا۔ چنے خدا تیرا رب جو کھانا جگہ اُس کر بھون اُسے پھر

8	שִׁשֶׁת	יָמִים	תֹּאכְלָה	מִצֹּת	וּבֵינֵם	הַשְּׂבִיעִי	עֲצֶרֶת	לִיהוָה	אֱלֹהֶיךָ
	چھ	دن	کھائے-گا	بے-خمیری-روٹیاں	اور-دن-میں	-ساتویں	بندش	یہوواہ-کے-لیے	تیرے-خدا-کے-لیے
	<a href="#">H8337</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H4682</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7637</a>	<a href="#">H6116</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>

לֹא תַעֲשֶׂה מִלֶּאכָה:   
 نہیں کرنا کام   
 [H4399](#) [H3808](#)

جانا۔بو جمع لئے کے عبادت کی خدا اپنے رب بلکہ کرنا نہ کام دن ساتویں رہ۔ کھاتا روٹی بے خمیری دن چھ پہلے کے عید

9	שְׁבַעַת	שְׁבַעַת	תְּסַפְּרָה	לָדָד	מִהַיְחֵל	חַרְמֵשׁ	בְּקִמָּה	תִּחַל	לְסַפְּרָה	שְׁבַעַת
	سات	بفتے	گنے-گا-	اپنے-لیے	شروع-کرنے-سے	درانتی	کھڑی-فصل-میں	شروع-کرے-گا	گنتا	سات
	<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H7620</a>				<a href="#">H2770</a>	<a href="#">H7054</a>		<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H7651</a>

שְׁבַעַת:   
 بفتے   
 [H7620](#)

بعدبفتے سات کے دن پہلے تو گی ہو شروع کٹائی کی فصل کی اناج جب

10	וְעֵשִׂיתָ	תָּג	שְׁבַעַת	לִיהוָה	אֱלֹהֶיךָ	מִסֹּת	נִדְרָת	יָדָךְ	אֲשֶׁר	תִּתֵּן
	اور-کرے-گا	عید	بفتوں-کی	یہوواہ-کے-لیے	تیرے-خدا-کے-لیے	مقدار	نذر	تیرے-ہاتھ-کی	جو	دے-گا
		<a href="#">H2282</a>	<a href="#">H7620</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H4530</a>	<a href="#">H5071</a>	<a href="#">H3027</a>		<a href="#">H5414</a>

כְּאֲשֶׁר:   
 جیسا-کہ   
 برکت-دے-گا-تجھے   
 یہوواہ   
 تیرا-خدا   
 [H1288](#) [H3068](#) [H0430](#)

بے۔دی تجھے نے اُس جو ہو مطابق کے برکت اُس وہ چاہے۔ جی جتنا کر پیش اتنا کو خدا اپنے رب منانا۔ عید کی کٹائی کی فصل

וְעַבְדְּךָ	וּבְתוֹךְ	וּבְנֵיךָ	אַתָּה	אֱלֹהֶיךָ	יְהוָה	וְלִפְנֵי	וְשִׁמְחָה
اور-تیرا-غلام	اور-تیری-بیٹی	اور-تیرا-بیٹا	تو	تیرے-خدا-کے	یہوواہ-کے	سامنے	اور-خوش-ہو-گا
<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H1323</a>			<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H8055</a>
בְּקֶרְבְּךָ	אֲשֶׁר	וְהֵאֲלַמְנָה	וְהִתְזַם	וְהִגֵּד	בְּשַׁעְרֶיךָ	אֲשֶׁר	וְהִלְוִי
تیرے-درمیان	جو	اور-بیوہ	اور-یتیم	اور-مسافر	تیرے-پھانکوں-میں-ہے	جو	اور-لاوی
<a href="#">H7130</a>		<a href="#">H0490</a>	<a href="#">H3490</a>	<a href="#">H1616</a>	<a href="#">H8179</a>		<a href="#">H3881</a>
			שָׁם:	שָׁמוּ	לְשֹׁכָן	אֱלֹהֶיךָ	יְהוָה
			وہاں	اپنا-نام	کو	تیرا-خدا	یہوواہ
			<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H7931</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3068</a>
						<a href="#">H0977</a>	<a href="#">H4725</a>

لونڈیاں اور غلام تیرے بچے، بال تیرے منا۔ خوشی حضور کے اُس وہاں گا۔ چنے لئے کے سکونت کی نام اپنے رب جو جا ہو جمع جگہ اُس بھی لئے کے اس ہوں۔ شریک میں خوشی تیری سب بیوائیں اور یتیم پردیسی، لاوی، والے رہنے میں شہروں تیرے اور

וּזְכָרְךָ	כִּי-	עֲבָד	הָיִיתָ	בְּמִצְרַיִם	וְשִׁמְרָתְךָ	וְעִשִׂיתָ	אֶת-	הַחֲקִים	הָאֵלֹהִים:
اور-یاد-رکھے-گا	کہ-	غلام	تو-تھا	مصر-میں	اور-محفوظ-رکھے-گا	اور-کرے-گا	کو-	فرائض	ان-
<a href="#">H2142</a>		<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H8104</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2706</a>	<a href="#">H0428</a>

### ד

تھا۔ غلام میں مصر تو کہ بھولنا مت اور کرنا عمل ضرور پر احکام ان

חַג	הַסֶּכֶת	תַּעֲשֶׂהָ	לָךְ	שִׁבְעַת	יָמִים	בְּאַסְפָּךְ	מִזְבְּחֶךָ
عید	-جھونپڑیوں-کی	کرے-گا	اپنے-لیے	سات	دن	جمع-کرنے-میں-تیرے	تیرے-کھلیہان-سے
<a href="#">H2282</a>	<a href="#">H5521</a>			<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H0622</a>	<a href="#">H1637</a>

### וּמִיָּבֵד:

اور-تیرے-حوض-سے  
[H3342](#)

ہو۔ دن سات دورانیہ کا جس منانا عید کی جھونپڑیوں بعد کے نکالنے رس کا انگور اور گابنے اناج

וְשִׁמְחָה	בְּחֻנְךָ	אַתָּה	וּבְנֵיךָ	וּבְתוֹךְ	וְעַבְדְּךָ	וְנֶאֱמַתָּה	וְהִלְוִי
اور-خوش-ہو-گا	تیری-عید-میں	تو	اور-تیرا-بیٹا	اور-تیری-بیٹی	اور-تیرا-غلام	اور-تیری-لونڈی	اور-لاوی
<a href="#">H8055</a>	<a href="#">H2282</a>		<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H0519</a>	<a href="#">H3881</a>
		אֲשֶׁר	וְהִגֵּד	וְהִתְזַם	וְהֵאֲלַמְנָה	אֲשֶׁר	בְּשַׁעְרֶיךָ:
		جو	اور-مسافر	اور-یتیم	اور-بیوہ	تیرے-پھانکوں-میں-ہیں	
			<a href="#">H1616</a>	<a href="#">H3490</a>	<a href="#">H0490</a>	<a href="#">H8179</a>	

خوشی تیری سب بیوائیں اور یتیم پردیسی، لاوی، والے بسنے میں شہروں تیرے اور لونڈیاں اور غلام تیرے بچے، بال تیرے منانا۔ خوشی پر موقع کے عید ہوں۔ شریک میں

שִׁבְעַת	יָמִים	הַחֹד	לִיהוָה	אֱלֹהֶיךָ	בְּמִקְוֵם	אֲשֶׁר-	יִבְחַר	יְהוָה	כִּי
سات	دن	عید-کرے-گا	یہوواہ-کے-لیے	تیرے-خدا-کے-لیے	-مقام-میں	جو-	چنے-گا	یہوواہ	کیونکہ
<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H2287</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H4725</a>		<a href="#">H0977</a>	<a href="#">H3068</a>	
						וְהִתְזַם	וְהֵאֲלַמְנָה	אֲשֶׁר	יְהוָה
						اور-یتیم	اور-بیوہ	جو	تیرا-خدا
						<a href="#">H3490</a>	<a href="#">H0490</a>	<a href="#">H8179</a>	<a href="#">H0430</a>

יְבָרְכֶךָ	יְהוָה	אֱלֹהֶיךָ	בְּכָל	תְּבוּאָתְךָ	וּבְכָל	מַעֲשֶׂה	יְדִיד	וְהִייתָ
برکت-دے-گا-تجھے	یہوواہ	تیرا-خدا	میں-ساری-	تیری-پیداوار	اور-سارے-میں	کام	تیرے-ہاتھوں-کے	اور-ہو-گا
<a href="#">H1288</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8393</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H1961</a>

אֵד שִׁמְחָה:  
یقیناً خوش  
[H8056](#) [H0389](#)

کو محنت اور فصلوں تمام تیری خدا تیرا رب کیونکہ منانا۔ عید یہ تک دن سات میں تعظیم کی اُس وہاں گا چنے لئے کے مقدس خدا تیرا رب جگہ جو منانا۔ خوشی خوب لئے اس گا، دے برکت

16	שָׁלוֹשׁ	אֶפְרַיִם	בְּשָׁנָה	יֵרָאָה	כָּל-	זְכוּרָךְ	אֶת-	אֶפְרַיִם	יְהוָה	אֱלֹהֶיךָ
	تین	بار	سال-میں	دکھائی-دے-گا	سب-	تیرے-مرد	کو-	چہرے-کے	یہوواہ-کے	تیرے-خدا-کے
	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H6471</a>	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H2138</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>

	בְּמִקּוֹם	אֲשֶׁר	יִבְחָר	בְּחֹג	הַמַּצּוֹת	וּבְחֹג	הַשְּׂבֻעוֹת	וּבְחֹג
	-مقام-میں	جو	چنے-گا	عید-میں	-ہے-خمیری-روٹیوں-کی	اور-عید-میں	-ہفتوں-کی	اور-عید-میں
	<a href="#">H4725</a>	<a href="#">H0977</a>	<a href="#">H2282</a>	<a href="#">H4682</a>	<a href="#">H2282</a>	<a href="#">H7620</a>	<a href="#">H2282</a>	<a href="#">H2282</a>

	הַסִּבּוֹת	וְלֹא	יֵרָאָה	אֶת-	אֶפְרַיִם	יְהוָה	רִיקָם:
	-جھونڈیوں-کی	اور-نہ	دکھائی-دے-گا	کو-	چہرے-کے	یہوواہ-کے	خالی-ہاتھ
	<a href="#">H5521</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7387</a>

عید کی کٹائی کی فصل عید، کی روٹی بے خمیری یعنی گا چنے خدا تیرا رب جو جائیں ہو حاضر پر مقدس اُس مرتبہ تین میں سال مرد تمام کے اسرائیل آئے۔ نہ ہاتھ خالی حضور کے رب بھی کوئی پر۔ عید کی جھونڈیوں اور

17	אִישׁ	כְּמִתְנַת	יָדוֹ	כְּבִרְכַת	יְהוָה	אֲשֶׁר	נָתַן-	לָךְ:
	آدمی	تحفے-کے-مطابق	اس-کے-ہاتھ-کے	برکت-کے-مطابق	یہوواہ-کی	تیرے-خدا-کی	دیا-ہے-	تجھے
	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H4979</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H1293</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H5414</a>	

ס

بے۔دی اُسے نے خدا تیرے رب جو دے مطابق کے برکت اُس کوئی بر

18	שֹׁפְטִים	וְשֹׁטְרִים	תִּתֶנּוּ-	לָךְ	בְּכָל-	שְׁעָרֶיךָ	אֲשֶׁר	יְהוָה	אֱלֹהֶיךָ	נָתַן
	قاضی	اور-افسر	مقرر-کرے-گا-	اپنے-لیے	سب-میں-	تیرے-پھاٹکوں	جو	یہوواہ	تیرا-خدا	دے-رہا-ہے
	<a href="#">H8199</a>	<a href="#">H7860</a>	<a href="#">H5414</a>		<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8179</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H5414</a>

	לָךְ	לְשֹׁפְטֶיךָ	וְשֹׁפְטוֹ	אֶת-	הָעָם	מִשְׁפָּט-	צִדְקָה:
	تجھے	تیرے-قبیلوں-کے-لیے	اور-فیصلہ-کریں-گے	کو-	قوم	فیصلہ-	راستبازی-سے
		<a href="#">H7626</a>	<a href="#">H8199</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H6664</a>

کریں۔عدالت کی لوگوں سے انصاف وہ گا۔ دے تجھے خدا تیرا رب جو ہوں میں شہر اُس بر وہ کر۔ مقرر نگہبان اور قاضی میں علاقے قبائلی اپنے اپنے

19	לֹא-	תַּחַה	מִשְׁפָּט	לֹא	תִּכְרֶה	פָּנִים	וְלֹא-	תִּקַּח	שָׁחַד	כִּי	הַשָּׁחַד	יַעֲוֶר
	نہ-	توڑنا	فیصلہ	نہ	پہچاننا	چہرے	اور-نہ-	لینا	رشوت	کیونکہ	رشوت	اندھی-کر-دیتی-ہے
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5186</a>	<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H7810</a>	<a href="#">H7810</a>	<a href="#">H7810</a>	<a href="#">H5786</a>

	עֵינַי	חֲכָמִים	וְיִסְתַּף	דְּבָרֵי	צְדִיקִים:
	آنکھیں	دانشمندوں-کی	اور-بگاڑتی-ہے	باتیں	راستبازوں-کی
		<a href="#">H2450</a>	<a href="#">H5557</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H6662</a>

بے۔دیتی پلٹ باتیں کی باز راست اور دیتی کر اندھا کو مندوں دانش رشوت کیونکہ کرنا، نہ قبول رشوت دکھانا۔ داری جانب نہ مارنا، حقوق کے کسی نہ

20	צִדְקָה	צִדְקָה	תִּרְדֶּךָ	לְמַעַן	תַּחֲיֶה	וְיִרְשָׁתָהּ	אֶת-	הָאָרֶץ	אֲשֶׁר-	יְהוָה
	راستبازی	راستبازی	پیچھا-کرے-گا	تاکہ	جیئے-گا	اور-وراثت-کرے-گا	کو-	زمین	جو-	یہوواہ
	<a href="#">H6664</a>	<a href="#">H6664</a>	<a href="#">H7291</a>	<a href="#">H4616</a>	<a href="#">H2421</a>	<a href="#">H3423</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3068</a>

	אֱלֹהֶיךָ	נָתַן	לָךְ:	ס
	تیرا-خدا	دے-رہا-ہے	تجھے	
	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H5414</a>		

گا۔دے تجھے خدا تیرا رب جو کرے قبضہ پر ملک اُس اور رہے جیتا تو تاکہ چل مطابق کے انصاف صرف اور صرف

21	לֹא-	תָּטַע	לָקַח	אֲשֶׁרָה	כָּל-	עֵץ	אֲצִל	מִזְבַּח	יְהוָה	אֱלֹהֶיךָ	אֲשֶׁר
	نہ-	لگانا	اپنے-لیے	یسیرہ	کوئی-	درخت	پاس-میں	مذبح-کے	یہوواہ-کے	تیرے-خدا-کے	جو
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5193</a>		<a href="#">H0842</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H6086</a>	<a href="#">H0681</a>	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	
	תְּעֹשֶׂה-	לָקַח:	ס								
	بنائے-گا-	اپنے-لیے	-								

کھمبہ لکڑی لئے کے پوجا کی دیوی یسیرت نہ وہاں گا بنائے گاہ قربان لئے کے خدا اپنے رب تو جہاں

22	וְלֹא-	תְּקִים	לָקַח	מִצְבֵּה	אֲשֶׁר	שָׂנֵא	יְהוָה	אֱלֹהֶיךָ:	ס
	اور-نہ-	کھڑا-کرنا	اپنے-لیے	ستون	جو	نفرت-کرتا-ہے	یہوواہ	تیرا-خدا	-
	<a href="#">H3808</a>			<a href="#">H4676</a>		<a href="#">H8130</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	

ہے۔ رکھتا نفرت سے چیزوں ان خدا تیرا رب ہیں۔ کرتے لوگ پوجا کی جس کرنا کھڑا پتھر ایسا کوئی نہ اور